



سوال

(116) تکبیرات جنازہ و تکبیرات عیدین میں رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تکبیرات جنازہ و تکبیرات عیدین میں رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں، ایک صاحب نہایت سختی سے فرماتے ہیں، کہ ان تکبیرات میں رفع الیدین کرنا ناجائز ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے متعدد روایتوں میں تکبیرات جنازہ میں رفع الیدین ثابت ہے۔ (جز رفع الیدین امام بخاری)

تکبیرات عیدین میں رفع الیدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مستقول ہے، (بیہقی)

ہندوستان میں اکثر علمائے اہل حدیث کا تعامل دونوں مقام پر رفع الیدین ہی پر ہے، صاحب موصوف کا قول غلط ہے، ان کی نظر آثار صحابہ پر نہیں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد ہے، ((ان یطیئوا اب۔ انکر و عمر ینتہوا)) (مسلم شریف یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کی اگر لوگ تابعداری کریں، تو ہدایت پر پہنچ جائیں گے) (اہل حدیث گزٹ دہلی جلد نمبر ۹ ش نمبر ۴)

(رشحات قلم حضرت مولانا مولوی محمد یونس محدث دہلوی رحمۃ اللہ)

[فتاویٰ علمائے حدیث](#)

جلد 05 ص 205

محدث فتویٰ